

DIOCTYL ADIPATE	ڈائی اوکٹائل ایپیٹ	ICSC: 1292
CAS # 103-23-1 RTECS # AU9700000 UN # EC # EINECS# 03-090-1 UN Hazard class:	دیگر نام: Bis(2-ethylhexyl)adipate Di-(2-ethylhexyl)adipate Adipic acid, bis(2-ethylhexyl)ester فارمولہ: C ₂₂ H ₄₂ O ₄ سامانی وزن: 370.5	
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانی پاؤڈر، FFFM، کاربن ڈائی آسائیڈ پانی باکل استعمال نہ کریں	بچاؤ کھلے شعلے اور سگریٹ نوشی سختی سے منع میں۔	خطہ کی قسم شدید نظرات \ علامات جلنے والا مادہ۔
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں خراب شدہ کپڑے تاریں پانی بھائیں پھر جلد کوپانی اور صابن سے دھوئیں	ہوا کی آمد و رفت کا انتظام کریں خفاڑتی دمٹانے استعمال کریں	دھاکہ: جسم میں داغ لئے: سانس کے راستے: جلد کے راستے:
پہلے کجھی منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ پانی سے منہ اندر سے صاف کریں	خفاڑتی چشمے استعمال کریں کام کے دوران خورد و نوش اور سگریٹ نوشی مت کریں	آنکھوں میں پڑنا: اسماں
پیک کرنا اور لیلیں لگانا:	بکھرنے کی صورت میں اقدامات:	
	رستے ہوئے مائیں کو سیل ہو جانے والے (ڈبوں یا برتنوں میں اکٹھا کریں۔ بdro میں نہ بھائیں۔ اعتیاق کے ساتھ بقیہ مادے کو اکٹھا کریں۔ پھر اس کو محفوظ جگہ پر لے جائیں۔ اس کمپیکل کو ماحول میں داخل نہ ہونے دیں	
ذخیرہ کرنا:	ہنگامی اقدامات:	
طاقوز تکمیدی عوامل طاقووز تیزابوں سے علیحدہ رکھیں	NFPA Code: H[0]; F[1]; R[0]	
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں		

DIOCTYL ADIPATE	ڈائی اکٹائل ائپیٹ	ICSC: 1292
اہم معلومات		
<p>جسم میں داغلے کے راستے: یہ مادہ جسم میں اس کے بھارت میں سانس لینے سے بجدب ہو سکتا ہے سانس کے راستے داغلے کی اثرات: 20 سمنی گریڈ پر اس کی مقدار کے ہوا میں خطرناک حد تک پہنچنے کی رفتار کا اندازہ نہیں لکھا جاسکتا مختصر مدت کے لیے جسم میں داغلے کے اثرات: آنکھوں میں سوزش پیدا ہوتی ہے یہ مادہ مرکزی عصبی نظام پر اندازہ ہو سکتا ہے طویل مدت کے لیے جسم میں داغلے کے اثرات: یہ مادہ بگر پر اثر انداز ہو سکتا ہے</p>		طبعی حالت: بے رنگ سے لے کر زرد مائع کیمیائی خواص: تیزالوں طاقتور تکمیلی عوامل طاقتور تیزالوں کے ساتھ عمل کرتا ہے جس سے اگ کا نظرہ پیدا ہوتا ہے ہوا میں مقررہ حدود: TLV معین نہیں کی گئی ہے
طبعی خواص		
<p>فلیش پاٹنٹ: 181°C o.c 20 سمنی گریڈ پر بھارت کی کثافت اضافی (مقابل ہوا = 1.01) خود بخود اگ بھڑکنے کا ٹیپیچہ: [395] سمنی گریڈ log pow کے طور پر اکٹانول بمقابلہ پانی پارٹیشن کو فیشنٹ: < 6.114 ماخولیاتی اعداد و شمار</p>		<p>نقاط بوٹ : [214] سمنی گریڈ نقاط پگھلاو: [67.8] سمنی گریڈ کثافت اضافی (مقابل پانی = 1): 0.92 20 سمنی گریڈ پر بھارتی پیش: [0.11] Kpa بھارت کی کثافت اضافی: 12.8</p>
یہ مادہ آبی چاندروں کے لیے نقصان دہ ہے		
نوٹس (Notes)		
<p>[Adipol 2EH, Bisoflex DOA, Effomol DOA, Ergoplast ADDO, Flexol A 26, Kemester 5652, Kodaflex DOA, Mollan S, Monoplex DOA, Reomol DOA, Sicol 250, Staflex DOA, Uniflex DOA, Vestinol OA, Wickenol 158, Witamol 320] تجارتی نام میں</p>		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
IPCS International Programme on Chemical Safety	    	Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999